



PAK-QATAR
FAMILY TAKAFUL



PAK-QATAR
FAMILY TAKAFUL



پاک قطر

PAK-QATAR

حفظ المال تکافل پلان

HIFZUL MAAL
TAKAFUL PLAN

PAK-QATAR HIFZUL MAAL TAKAFUL PLAN

INVESTMENT LINKED TAKAFUL PRODUCT GATEWAY TO HALAL WEALTH GROWTH

KEY FEATURES

- Single contribution plan with Minimum contribution of PKR 50,000/-.
- Shariah Compliant returns.
- Option for top-up is available / Grow your investment with the flexibility of additional contribution.
- No allocation fee.
- 10% will be charged as an administration fee over a period of 24 months.
- Investment Management Fee of 3% per annum is applied on the Net Asset Value of investments.
- Breakeven from 1st Year.
- Plan Term: Minimum entry age: 1 year – Maximum maturity age: 67 years.

VALUE ADDED BENEFITS

- Motor Takaful on special discounted rate of 1.25% (Upto 2 Vehicles)
- 40% discount on Family Sehat Plan (Health Card for Individuals)

ASSUMED PARTICULARS

Age	40 Years
Membership Term	05 Years
Contribution Paying Term	05 Years
Yearly Contribution	PKR 50,000
Fund Strategy	Balanced: 100%
Expected Growth Rate	9%

BENEFITS PAYABLE

On Maturity (Cash Value)	PKR 60,050
On Death	Higher of Face Value or Cash Value

9% p.a Unit Growth Rate / Rate of Return

Cash Value	Basic Plan Death Benefit
50,331	62,500
50,681	62,500
53,629	62,500
56,749	62,500
60,050	62,500

DISCLAIMER

- This product is not guaranteed or covered by MCB Islamic Bank or its affiliates and is not a Bank's product. The Bank is only acting as a distributor in providing this facility and cannot be held responsible for settling claims emanating from this scheme or for the approval or rejection of any claim or any act or omission on the part of the Takaful provider.
- Pak-Qatar Hifzul Maal Takaful Plan is an Investment Linked Takaful Plan which is subject to investment risk. The investment risk shall be borne by the participant and actual maturity and surrender values may be lower or higher than the projected figures.
- All Pak-Qatar Hifzul Maal Takaful Plan applications are processed and approved by Pak-Qatar Family Takaful Limited, as per their underwriting guidelines. "Bank" is not responsible for processing and approval of these applications in any way, whatsoever.
- This brochure only provides an introduction to the benefits available under the plan. A detailed description of how the contracts works is given in "Terms & Conditions" attached with the Participant Membership Document (PMD), which will be provided after the issuance of the certificate.
- The past performance of the investment fund is not necessarily a guide to future performance. Any forecast is not necessarily indicative of future or likely performance of the funds and neither Pak-Qatar Family Takaful Limited nor "Bank" will incur any liability for the same.
- MCB Islamic Bank's Shari'ah Board is not responsible for making sure the Shari'ah Compliance of the product. It is responsibility of Pak-Qatar Family Takaful Limited Shari'ah Advisor.

پاک قطر حفظ المال تکافل پلان

انوسٹمنٹ لنکڈ تکافل پروڈکٹ

دولت میں حلال اضافے کا بہترین ذریعہ

بنیادی خصوصیات

- سنگل زرتعاون پلان، جس میں کم سے کم زرتعاون 50,000 روپے ہے
- شریعت کے مطابق نفع کا حصول
- ٹاپ اپ کا آپشن دستیاب ہے، لہذا اضافی زرتعاون سے اپنی سرمایہ کاری میں اضافہ کریں
- کوئی ایلوکیشن فیس نہیں
- مینجمنٹ فیس 24 ماہ کی مدت میں صرف دس فیصد چارج کی جائے گی
- سرمایہ کاری کے صافی اثاثہ جات کی ویلیو پر سالانہ 3% مینجمنٹ فیس لاگو ہوگی
- پہلے سال سے بریک ایون
- پلان کی مدت: 1/67 سال

اہم اضافی فوائد:

1.25% کی خصوصی رعایتی شرح پر موٹر تکافل کوریج (دو گاڑیوں کے لیے)،
فیملی صحت پلان پر 40 فیصد رعایت (انفرادی شرکاء کے لیے ہیلتھ کارڈ)

فرضی تفصیلات

عمر	40 سال
رکنیت کی مدت	5 سال
زرتعاون کی ادائیگی کی مدت	5 سال
سالانہ زرتعاون	50,000 روپے
فنڈ کی حکمت عملی	متوازن: 100 فیصد
نفع کی متوقع شرح	9 فیصد

قابل ادا فوائد

مپجورٹی پر (کیش ویلیو)	65,969 روپے
وفات کی صورت میں	کیش ویلیو اور فیس ویلیو میں سے جو بھی زیادہ ہو

9 فیصد سالانہ کے حساب سے پونٹ گروتھر ریٹ / ریٹ آف ریٹرن

کیش ویلیو	وفات کی صورت میں پلان کا بنیادی فائدہ
50,331	62,500
50,681	62,500
53,629	62,500
56,749	62,500
60,050	62,500

وضاحت

- MCB اسلامک بینک یا اس کے متعلقین اس پروڈکٹ کے ضامن یا فراہم کنندہ نہیں اور یہ بینک کی پروڈکٹ نہیں ہے۔ بینک صرف اس سہولت کی فراہمی کے لیے تقسیم کنندہ کے طور پر کردار ادا کر رہا ہے اور اسے اس اسکیم سے خارج ہونے کی صورت میں دعویٰ جات کے تصفیے یا کسی دعوے کے منظور یا مسترد ہونے یا تکافل فراہم کنندہ کی جانب سے کسی عمل یا اخراج کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا جاسکتا۔
- پاک قطر حفظ المال تکافل پلان ایک انوسٹمنٹ لنکڈ تکافل پلان ہے جو سرمایہ کاری کے خطرات سے مشروط ہے۔ سرمایہ کاری کا خطرہ شراکت دار برداشت کرے گا اور حقیقی مپجورٹی یا دستبرداری کی رقم تجویز شدہ اعداد و شمار سے کم یا زیادہ ہو سکتی ہے۔
- پاک قطر حفظ المال تکافل پلان کی تمام درخواستیں پاک قطر فیملی تکافل لمیٹڈ کی جانب سے ان کے طے شدہ رہنما اصولوں کے مطابق پروسیس اور منظور کی جاتی ہیں۔ ”بینک“ کسی بھی صورت میں ان درخواستوں کی پروسیسنگ اور منظوری کا ذمہ دار نہیں ہے۔
- یہ بروشر مذکورہ پلان کے تحت دستیاب فوائد کا محض تعارف پیش کرتا ہے۔ معاہدوں

کے طریقہ کار کی تفصیلی وضاحت پارٹنر شپ ڈاکیومنٹ (PMD) کے ساتھ منسلک ”شرائط و ضوابط“ میں دی گئی ہے، جو سرٹیفکیٹ کے اجراء کے بعد فراہم کی جائیں گی۔

سرمایہ کاری فنڈ کی ماضی کی کارکردگی لازمی طور پر مستقبل کی کارکردگی کی علامت نہیں۔ کوئی پیش گوئی مستقبل کا اشاریہ یا فنڈز کی ممکنہ کارکردگی ظاہر نہیں کرتی اور نہ ہی پاک قطر فیملی ٹکافل لمیٹڈ اور نہ ”بینک“ اس حوالے سے کسی ادائیگی کا ذمہ دار ہوگا۔

MCB اسلامک بینک کا شریعہ بورڈ اس پروڈکٹ کا شرعی اصولوں سے ہم آہنگ ہونا یقینی بنانے کا ذمہ دار نہیں ہے۔ یہ پاک قطر فیملی ٹکافل لمیٹڈ کے شریعہ ایڈوائزر کی ذمہ داری ہے۔